



FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020

Obiettivo Specifico 2. Integrazione / Migrazione legale -
Obiettivo nazionale 2. Integrazione - 02- Promozione dell'accesso ai servizi per l'integrazione lett. e)

Piano Regionale prog-1117 MISURA PER MISURA - Atto secondo: Integrazione

Residenza کا اندراج اور منسوخی

Residenza کا اندراج؛

Residenza حاصل کرنے کیلئے تمام بالغ (۱۸ سال) افراد کا اپنے فارم پر دستخط کرنا ضروری ہے اگر کسی ایک اطالوی comune سے دوسرے اطالوی comune میں منتقل ہونے کی صورت میں فارم کے شروع میں پُرانے comune کا نام واضح کرنا ضروری ہے، تمام افراد جن کا Residenza بنوانا ہوا کسی permesso di soggiorno کی فوٹو کا پتلا ساتھ لانا ضروری ہے

۔ اگر پر میسودی سبوری نو تجدید (ری نیو) کروانے کیلئے جمع کروائی ہے تو اسکی رسید
۔ اگر پہلی مرتبہ پر میسودی سبوری نو جمع کروائی ہے تو

۔ کام کیلئے motivi familiari کیلئے جمع کروائی گئی پر میسودی سبوری نو کی وہ رسید جو sportello unico per l'immigrazione سے حاصل ہو

(mod.209) کی فوٹو کاپی

Richiesta- کی رسید کی فوٹو کاپی

یورپی یونین کے شہریوں اور خاندان کے افراد کیلئے شادی اور پیدائش کے سرٹیفیکیٹ کی منظور شدہ ترجمہ کی فوٹو کاپی جمع کروانا ضروری ہے دوسرے شہریوں کیلئے یہ سرٹیفیکیٹ جمع کروانا ضروری نہیں صرف stato civile میں تبدیلی کیلئے ضروری ہے

Residenza کی منسوخی اور تجدید

پر میسودی سبوری نو کے ختم ہونے کے چھ ماہ کے اندر نئی پر میسودی سبوری نو کی فوٹو کاپی ufficio anagrafe میں جمع کروانا ضروری ہے
چھ ماہ کے بعد ufficio anagrafe آپ کو خط کے ذریعے نئی پر میسودی سبوری نو کی فوٹو کاپی جمع کروانے کو کہتا ہے اگر خط کی موصولی کے ۳۰ دن کے اندر آپ نئی پر میسودی سبوری نو یا اسکی رسید جمع نہیں کرتے تو ufficio anagrafe آپ کا residenza منسوخ کر سکتا ہے

گھر کے باہر موجود لیٹر باکس پر گھر میں موجود تمام افراد کے نام لکھنا ضروری ہے

سرٹیفیکیٹ کا اجراء

certificato di residenza اور stato di famiglia کسی بھی پبلک آفس بشمول questura اور prefettura میں استعمال کیلئے جاری نہیں کیا جائے گا
شادی کا سرٹیفیکیٹ پیدائش کا سرٹیفیکیٹ اور انتقال کا سرٹیفیکیٹ صرف وہ غیر ملکی شہری حاصل کر سکتے ہیں جنکی پیدائش یا شادی اٹلی میں ہوئی ہو